

متعدد زوجات اور مہر

<?xml encoding="UTF-8?">

متعدد زوجات اور مہر

۱ - سوال: جس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اس کیلئے زوجات کہ درمیان عدالت یا برابری رکھنے کا کیا معنی ہے؟

جواب: جواب لازمی طور پر برابری رکھنا جو واجب ہے تو وہ صرف راتوں کی تقسیم میں ہے مثلاً ہر چار راتوں میں اگر کسی ایک زوجہ کہ پاس ایک رات قیام کیا ہے تو باقی زوجات کہ پاس بھی اتنا ہی قیام کرے۔ جبکہ مستحب یہ ہے کہ خرچہ کرنے میں ، وقت دینے ، توجہ دینے میں اور جنسی حاجات پوری کرنے میں بھی برابری یا عدالت سے کام لے۔

مہر

۱- سوال: کیا مہر اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت پر دے یا ضروری ہے کہ مہر مال ہی ہو؟
جواب: جو کچھ بھی ایک مسلمان اپنی صحیح ملکیت میں رکھتا ہو وہ مہر ہوسکتا ہے ، اور بناء بر احتیاط وجوبی شرط یہ ہے کہ وہ چیز عرف میں مالیت رکھتی ہو ، اور فقط ایک آیت کا پڑھ دینا عرف کی نظر میں مالیت نہیں رکھتا ۔

۲ سوال: مہر فاطمی (علیہا السلام) کی مقدار کیا ہے ؟

جواب: بعض معتبر روایات میں ہے کہ جناب فاطمہ الزہراء علیہا السلام کا مہر (درع حطمیہ) تھی جو کہ تیس۔ ۳۰ درہم کہ مساوی بنتی ہے ، جبکہ کچھ اور روایات میں ہے کہ انکے مہر کی مقدار وہی مہر سنت تھی یعنی پانچ سو۔ ۵۰۰ درہم۔ (ایک درہم ڈھائی گرام چاندی کہ برابر ہے)